

# NEWYORK – PRESBYTERIAN /QUEENS

## مالی امداد کی پالیسی کا خلاصہ

NewYork-Presbyterian/Queens ان مریضوں کی اعانت کرنے کے لیے ایک طویل مدتی پالیسی رکھتا ہے جنہیں ہمارے ہسپتال میں نگہداشت صحت کی خدمات موصول ہوتی ہیں اور جنہیں مالی امداد درکار ہے، جس میں عمر، صنف، نسل، قومی نژاد، سماجی و معاشی یا ترک وطن کی حیثیت، جنسی رجحان یا مذہبی وابستگی کا لحاظ نہیں کیا جاتا ہے۔

**اگر NEW YORK – PRESBYTERIAN/QUEENS (باسیٹل) کے تئیں آپ پر مالی جوابدہی ہے اور آپ کو یقین ہے کہ آپ ادائیگی کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے ہیں تو NYP/QUEENS کے پاس مالی امداد کی ایک پالیسی ہے جو اہل قرار یافتہ مریضوں کی اعانت کر سکتی ہے۔**

### مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں مالی امداد کیلئے اہل ہوں؟

- New York State کے رہائشی طبی طور پر لازمی ہنگامی خدمات کیلئے مالی امداد کے اہل ہو سکتے ہیں۔ ہسپتال کی بنیادی خدمت کے شعبے کے رہائشی طبی طور پر لازمی غیر ہنگامی خدمات کیلئے مالی امداد کے لیے اہل قرار پا سکتے ہیں۔
- NewYork-Presbyterian/Queens کے لیے، خدمت بنیادی کا علاقہ New York City اور Nassau County کے پانچوں بورو (کاؤنٹیز) پر مشتمل ہے۔
- جو مریض مذکورہ بالا معیار پر پورا اترتے ہیں اور جن کی آمدنی نیچے دکھائی گئی رقم سے کم ہے وہ مالی امداد کے لیے اہل قرار پا سکتے ہیں۔

آمدنی (موثر از 1/17/2020)	فیملی یا گھرانے میں موجود افراد
\$76,560	1
\$103,440	2
\$130,320	3
\$157,200	4
\$26,880	ہر اضافی شخص کے لیے، جوڑیں:

- مالی امداد کی اہلیت کا تعین عموماً مالی امداد کی درخواست کے مکمل ہونے کے بعد کیا جائے گا۔
- یہ پالیسی ان معالجین یا دیگر فراہم کنندگان کے چارجز پر لاگو نہیں ہوتی ہے جو اپنی خدمات کے لیے آزادانہ طور پر بل بھیجیں گے۔

### مجھے کس قسم کی اعانت مل سکتی ہے؟

- ہسپتال اپنے چارجز کو اپنے مالی امداد پروگرام کے لیے اہل مریضوں پر بیمہ شدہ افراد کو ہنگامی یا دیگر طبی لحاظ سے لازمی نگہداشت کے لیے عام طور پر جتنی رقم کا بل بھیجا جاتا ہے (amounts generally billed, AGB) اس سے زیادہ رقم چارج نہیں کرے گا۔ دیگر تمام نگہداشت کے لیے، کسی اہل فرد پر ہسپتال کے مجموعی چارجز سے زیادہ چارج نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ہسپتال متوقع طریقہ استعمال کر کے AGB کا حساب کرتا ہے اور اس شرح کی بنیاد نیو یارک اسٹیٹ کی فیس برائے خدمت کی Medicaid کی شرحوں پر ہوتی ہے۔
- اہل مریضوں کے لیے قسط میں ادائیگی کا منصوبہ دستیاب کرایا جائے گا۔
- آپ کی درخواست جمع ہو جانے پر، آپ کسی بل کو تب تک نظر انداز کر سکتے ہیں جب تک ہم اس درخواست پر کوئی فیصلہ صادر نہ کر دیں۔

### میں اپنے سوالوں کے جوابات پانے کے لیے کس طرح درخواست دے سکتا ہوں؟

- مالی امداد کی پالیسی، خلاصہ اور درخواست ہمارے داخلہ کے دفاتر میں یا [www.nyp.grg/queens](http://www.nyp.grg/queens) پر ہماری ویب سائٹ پر مالی امداد کے بٹن کی نیچے انگریزی اور دیگر زبانوں میں دستیاب ہے۔
- مالی امداد کی اہلیت اور درخواست پر کارروائی سے متعلق معلومات داخلہ کے دفاتر میں یا ہمیں **(866) 252-0101** پر ٹول فری کال کر کے دستیاب ہیں